

قومی کوویڈ الرٹ

گھر پر رہیں

5 نومبر سے 2 دسمبر

صرف خوراک، طبی
وجوہات، ورزش، تعلیم یا
نوکری کے لئے گھر سے نکلیں

اگر ممکن ہو تو آپ کو گھر سے کام
کرنا چاہیے

اگر ضروری نہ ہو تو سفر کرنے سے گریز کریں

اسکول اور ضروری دکانیں کھلی رہیں گی

یاد رکھیں: ہاتھ دھویں، چہرہ ڈھانپیں، فاصلہ رکھیں

gov.uk/coronavirus پر تازہ ترین ہدایت نامہ اور چھوٹ دیکھیں

چوکنے رہیں ◀ وائرس پر قابو پائیں ◀ زندگیاں بچائیں